

ROOTWORDS OF SURAH AL BAQARAH 26-30

يَسْتَحْيِي	يَضْرِبَ	بَعُوضَةً	فَوْقَهَا	فَيَعْلَمُونَ
ح ي ي	ض ر ب	ب ع ض	ف و ق	ع ل م
شرماتا/حیا فرماتا	وہ بیان کرے	مچھر کی	اس کے اوپر/اس سے بڑھ کر	پس وہ جانتے ہیں
الْحَقُّ	رَبِّهِمْ	فَيَقُولُونَ	أَرَادَ	مَثَلًا
ح ق ق	ر ب ب	ق و ل	ر و د	م ث ل
سچ ہے	ان کے پروردگار کی	سو وہ کہتے ہیں	اراد کیا/چاہا	مثال
يُضِلُّ	كَثِيرًا	يَهْدِي	الْفَاسِقِينَ	يَنْقُضُونَ
ض ل ل	ك ث ر	ه د ي	ف س ق	ن ق ض
گمراہ کرتا ہے	اکثر کو/بہتوں کو	وہ ہدایت بخشتا ہے	نافرمانوں کو	وہ توڑ دیتے ہیں
عَهْدَ	مِيثَاقِهِ	يَقْطَعُونَ	أَمَرَ	يُوصِلَ
ع ه د	و ث ق	ق ط ع	أ م ر	و ص ل
عہد کو	پختہ کرنے اس کے	وہ قطع کرتے ہیں	حکم دیا	جوڑنے کا
يُفْسِدُونَ	الْخَاسِرُونَ	كَيْفَ	تَكْفُرُونَ	أَمْوَاتًا
ف س د	خ س ر	ك ي ف	ك ف ر	م و ت
وہ فساد کرتے ہیں	نقصان اٹھانے والے ہیں	کیونکر/کس طرح	تم انکار کرتے ہو	بے جان تھے
فَأَحْيَاكُمْ	تُرْجَعُونَ	خَلَقَ	جَمِيعًا	اسْتَوَى
ح ي ي	ر ج ع	خ ل ق	ج م ع	س و ي
پھر تمہیں زندہ کیا	تم لوٹائے جاؤ گے۔	پیدا کیا	سب کچھ	متوجہ ہوا
فَسَوَّاهُنَّ	سَبْعَ	السَّمَاءِ	شَيْءٍ	عَلِيمٍ
س و ي	س ب ع	س م و	ش ي أ	ع ل م
پھر برابر کر دیا ان کو	سات	آسمان	چیز	خوب جاننے والا

لِلْمَلَائِكَةِ	جَاعِلٌ	خَلِيفَةً	يُفْسِدُ	يَسْفِكُ
اَلْ ك	ج ع ل	خ ل ف	ف س د	س ف ك
فرشتوں سے	بنانے والا ہوں	ایک نائب	وہ فساد کرے گا	وہ بہائے گا
الدِّمَاءِ	نُسَبِحُ	بِحَمْدِكَ	نُقَدِّسُ	أَعْلَمُ
د م و	س ب ح	ح م د	ق د س	ع ل م
خون	ہم تسبیح کرتے ہیں	تیری حمد کے ساتھ	ہم پاکی بیان کرتے ہیں	خوب جانتا ہوں